



سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان

- مڈل آرڈر بلے باز فواد عالم کی قومی ٹیسٹ ٹیم میں واپسی
- سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 11 سے 15 دسمبر تک راولپنڈی میں کھیلا جائے گا
- دوسرا میچ 19 سے 23 دسمبر تک کراچی میں ہوگا

لاہور، 7 دسمبر 2019:

مڈل آرڈر بلے باز فواد عالم اور عثمان شنواری کو آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں شامل سری لنکا کے خلاف دو میچز میں شرکت کے لیے قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ دونوں کھلاڑیوں کو افتخار احمد اور محمد موسیٰ کی جگہ قومی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔

34 سالہ فواد عالم نے اپنا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ نومبر 2009 میں کھیلا تھا تاہم عثمان شنواری اب تک اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز نہیں کر سکے۔ فاسٹ باؤلر پاکستان کی جانب سے 17 ایک روزہ اور 16 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیل چکے ہیں۔

ڈومیسٹک کرکٹ میں مسلسل عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے فواد عالم نے ڈومیسٹک سیزن 2015-16 میں 56 کی اوسط سے 672 رنز بنائے۔ انہوں نے سیزن 17-2016 میں 55 سے زائد کی اوسط سے 499 ، سیزن 18-2017 میں 570 رنز اور گذشتہ سیزن میں 699 رنز بنائے۔ حالیہ سیزن میں فواد عالم نے 71 کی اوسط سے 781 رنز بنائے۔

عثمان شنواری حالیہ سیزن کے چھ فرسٹ کلاس میچز میں 15 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔

سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 11 سے 15 دسمبر تک راولپنڈی جبکہ دوسرا 19 سے 23 دسمبر تک نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔

اسکواڈ:

1. اظہر علی (کپتان)(سنٹرل پنجاب)
2. عابد علی(سندھ)
3. اسد شفیق (سندھ)
4. بابر اعظم (سنٹرل پنجاب)
5. فواد عالم (سندھ)
6. حارث سہیل (بلوچستان)
7. امام الحق (بلوچستان)
8. عمران خان سینئر(خیبرپختونخوا)
9. کاشف بھٹی (سندھ)
10. محمد عباس(سدرن پنجاب)
11. محمد رضوان (وکٹ کیپر) (خیبرپختونخوا)
12. نسیم شاہ (سنٹرل پنجاب)
13. شاہین شاہ آفریدی (ناردرن)
14. شان مسعود (سدرن پنجاب)
15. یاسر شاہ (بلوچستان)
16. عثمان شنواری (خیبرپختونخوا)

مصباح الحق، چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم:

چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم مصباح الحق نے کہا کہ وہ فواد عالم کو ٹیم میں منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ ان کی انتہک محنت کا صلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ فواد عالم کا ٹیم میں انتخاب ایمر جنگ کرکٹرز اور سلیکٹرز دونوں کے لیے ایک مثال ہے۔

مصباح الحق نے کہا کہ عثمان شنواری گذشتہ چند سالوں سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے پول کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فاسٹ باؤلر نے قائد اعظم ٹرافی میں بہترین فٹنس کے ساتھ عمدہ باؤلنگ کا مظاہرہ کیا، امید ہے شاہین شاہ آفریدی، محمد عباس، نسیم شاہ اور عمران خان سینئر کی موجودگی میں ان کی شمولیت سے قومی ٹیم کو فائدہ ہوگا۔

مصباح الحق نے کہا کہ محمد موسیٰ سیریز کے لیے قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا حصہ نہیں ہوں گے تاہم وہ اس دوران باؤلنگ کوچ وقار یونس کے ہمراہ اپنی باؤلنگ پر کام کریں گے۔

مصباح الحق نے کہا کہ ہم نے آسٹریلیا کے خلاف قومی ٹیسٹ اسکواڈ کے سولہ میں سے

چودہ کھلاڑیوں کو سری لنکا سیریز میں برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے کہا امید ہے کہ یہ 14 کھلاڑی سیریز میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔

انہوں نے کہا کہ دورہ آسٹریلیا میں ہمیں توقعات کے مطابق نتائج نہیں مل سکے۔ مصباح الحق نے کہا کہ قومی ٹیم وہاں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی۔ انہوں نے کہا کہ گذشتہ سیریز ہمارے لیے سیکھنے کا بہترین موقع تھا۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk

@therealpcb

@PakistanCricketBoard

@PakistanCricketOfficial

@therealpcb

PCB Headquarters

Gaddafi Stadium

Ferozpur Road, Lahore

Pakistan, PO Box 54000

T: +92 42 3571 7231-4

